

اپنے حقوق جانئے

پناہ گزینوں اور سیاسی پناہ مانگنے والوں کے لیے حقائق نامہ
DHS یا FBI کے ساتھ انٹرویو

DHS یا FBI اگر مجھے انٹرویو کی درخواست کریں تو میں کیا کروں؟

DHS یا FBI سے بات کرنے سے پہلے ایک وکیل سے رابطہ کریں!

DHS یا FBI سے بات کرنے سے پہلے آپ کو وکیل کرنے کا حق ہے

آپ انٹرویو سے انکار کر سکتے ہیں، لیکن بعض صورتوں میں اس کو مشکوک دیکھا جا سکتا ہے۔

نوٹ: اگر آپ کو ایف بی آئی / ہوم لینڈ سیکورٹی کی کوئی دستاویز موصول ہوتی ہیں تو ہم آپ کو ایک وکیل سے رابطہ کرنے کی سفارش کرتے ہیں۔

مفت قانونی امداد یہاں دستیاب ہے:

Tahirih جسٹس سینٹر : Houston@Tahirih.org

انسانی حقوق پہلے : TXProbono@humanrightsfirst.org / (713) 955-1360

انٹرنیشنل خدمات: مفت واک-ان لیگل کلینک 9:00 am – 3:00 pm, West Park Drive, Suite 600
YMCA ہر بدھ کو

کیتھولک چیرٹیز: مفت معلوماتی سیشن کی تاریخوں کے لئے اس نمبر پر کال کریں

2900 Louisiana street (713)874-6570

ایف بی آئی اور ہوم لینڈ سیکورٹی کون ہیں اور وہ مجھے کیوں انٹرویو کرنا چاہتے ہیں؟

- ہوم لینڈ سیکورٹی ایک سرکاری ایجنسی ہے جو امریکی امیگریشن قوانین کے نفاذ اور سرحدوں کو محفوظ رکھنے کی ذمہ دار ہے۔ ہوم لینڈ سیکورٹی کمیونٹیز کو محفوظ رکھنے کے لئے ان لوگوں کی شناخت کرتے ہیں جو امریکی حکومت کی حمایت نہیں کرتے اور جو ایسے بیرون ملک گروپوں، تنظیموں یا لوگوں کو پیسے بھیجتے ہیں جن کی امریکی حکومت حمایت نہیں کرتی۔
- تحقیقات کے وفاقی بیورو (ایف بی آئی) ایک سرکاری ایجنسی ہے جو اندرونی امریکی سیکورٹی پر نظر رکھتا ہے اور ملکی اور بین الاقوامی دہشت گردی کے خلاف برسر پیکار ہے۔
- ایف بی آئی یا ہوم لینڈ سیکورٹی طالب پناہ یا مہاجرین کا انٹرویو کر سکتے ہیں۔
- کمیونٹی کی مشغولیت کے بارے میں یا جب ان کو مزید معلومات کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ آپ کی ممکنہ تاریخ امریکا میں یا امریکا آنے سے پہلے کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں۔
- ایف بی آئی یا ہوم لینڈ سیکورٹی ایک سے زیادہ انٹرویو کے لئے آپ سے پوچھ سکتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں یہ بری علامت نہیں ہے۔

اگر میں انٹرویو کے لئے اتفاق کروں تو میرے کیا حقوق ہیں؟

- آپ کو حق ہے کہ آپ کے پاس ایک وکیل موجود ہو۔ ہیوسٹن میں قانونی تنظیمیں آپ کو شاید ایک مفت وکیل فراہم کر سکتی ہیں۔
- آپ کو انٹرویو کے لئے وقت اور جگہ مقرر کرنے کا حق ہے۔
- جو سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے، آپ کو ان سوالات کا پہلے سے معلوم کرنے کا حق حاصل ہے۔
- آپ کو حق ہے کہ آپ کے پاس ایک مترجم موجود ہو۔ ہیوسٹن میں قانونی تنظیمیں آپ کو شاید ایک مفت مترجم فراہم کر سکتی ہیں۔

یاد رکھیں: خود کار طریقے سے جلاوطنی نہیں ہو سکتی۔ آپ کو عمل اور عمل کے حقوق، جیسا کہ وکیل (سرکاری خرچ پر نہیں)، سماعت اور اس سے زیادہ حقوق حاصل ہیں۔

مجھے انٹرویو کے دوران کیا کرنا چاہیے؟

- انٹرویو دینے سے پہلے ایک بیج یا کاروباری کارڈ زورور مانگیں۔
- انٹرویو کرنے والے سے ان کے نام، عنوان، ایجنسی، فون نمبر اور ای میل ایڈریس زورور مانگیں۔ یہ سب لکھیں اور اس کا ریکارڈ رکھیں۔
- انٹرویو کے دوران جو پوچھا گیا اور جو تبادلہ خیال ہوا اس کو لکھیں۔ اس کی علاوہ اپنے فون پر انٹرویو ریکارڈ بھی کر سکتے ہیں۔
- آپ کو کسی بھی دستاویزات کے حوالے کرنے سے انکار کا حق ہے۔
- اگر آپ کو سوال سمجھنے میں مشکل ہو تو، جواب دینے سے پہلے آپ وضاحت طلب کر سکتے ہیں۔
- آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ صرف ان سوالات کے جواب دیں جو آپ آرام سے دے سکتے ہیں۔ جو بھی ہو، یہ جان لیں کہ ہر بات ریکارڈ ہو رہی ہے۔
- اگر انٹرویو سے بحث اور جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، یا آپ غیر آرام دہ محسوس کرتے ہیں، یا آپ ایک وکیل سے بات کرنا چاہتے ہیں تو اس کے کسی بھی موڑ پر آپ انٹرویو ختم کر سکتے ہیں۔

یاد رکھیں: جان بوجھ کر ایک افسر سے جھوٹ بولنا ایک جرم ہے

کیا میں ایک مشتبہ دہشت گرد بنے بغیر خیراتی تنظیم کو صدقہ دے سکتا ہوں؟

- یہ منحصر کرتا ہے۔ آپ جن اسباب پر ایمان رکھتے ہیں، ان کو پیسے دینا جاری رکھ سکتے ہیں۔ لیکن آپ کو خیراتی اداروں کو منتخب کرنے میں ہوشیار رہنا چاہئے۔ جو دہشت گرد تنظیمیں سٹیٹ ڈیپارٹمنٹ کی فہرست پر ہیں، آپ کو ان کی حمایت نہیں کرنی چاہیے۔ [1] امریکی نظریات میں ملزم گروپوں کو مالی یا دیگر مدد فراہم کرنا آپ کی امیگریشن کی اسٹیٹس پر اثر انداز ہو سکتا ہے اور آپکی اور آپ کے خاندان کے اراکین کے لئے دیگر قانونی دشواریوں کا سبب بن سکتا ہے۔

کیا میں مذہبی اداروں یا عوامی مقامات میں اپنے دین پر عمل کرنے کے لئے محفوظ ہوں؟

- آپکو اپنے مذہب پر عمل کرنے کا آئینی حق ہے۔ آپکو عبادت کی جگہ پر جانے اور شرکت کرنے، خطبات اور مذہبی لیکچر سننے، کمیونٹی کی سرگرمیوں میں حصہ لینے، اور عوام میں نماز ادا کرنے کا حق حاصل ہے۔ یاد رکھیں، قانون آپ کی حفاظت کے لئے آپ کی طرف ہے۔

- اگر آپ کو نفرت کی کسی بھی کارروائیوں کا سامنا ہو تو، پولیس، ایک پناہ گزین آباد کاری کی تنظیم، اور / یا ایک مفت قانونی خدمات کی تنظیم سے رابطہ کریں۔
-

اگر میں غیر محفوظ محسوس کروں تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟

- اگر کوئی آپ کو دھمکی دے یا آپ کو محسوس ہو کہ آپ کی زندگی خطرے میں ہے تو فوراً "ان سے دوری حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور پولیس کو 911 پر کال کریں۔
 - اضافی حمایت کے لئے اپنی دوبارہ آبادکاری کی ایجنسی کو مطلع کریں۔
 - اگر آپ کے بچے کو اسکول میں کوئی تنگ کر رہا ہے تو آپ اپنے بچے کے اسکول کو اور اپنی دوبارہ آبادکاری کی ایجنسی کو مطلع کریں۔
-

مجھے مزید معلومات کہاں سے مل سکتی ہیں؟

- آپ اپنی دوبارہ آبادکاری کی ایجنسی میں کسی سے بات کریں۔
- (CAIR) امریکی اسلامی تعلقات ہیوسٹن کونسل (کیئر) کو کال کریں 713-838-2247
- ہیوسٹن میں با قانونی امیگریشن خدمات ویب سائٹ ملاحظہ www.houstonimmigration.org کریں۔

امریکی حکومت کی طرف سے دہشت گردی کے طور پر نامزد تنظیموں کی فہرست کے لئے [1] دیکھیں:

<http://www.state.gov/j/ct/rls/other/des/123085.htm>